

سفرِ محبت

خرم مرادؒ

حج کی حقیقت کو تم ایک دفعہ پالو اچھی طرح اور پوری طرح جان لو اسی کے مطابق خود کو ڈھا لو اسی کی روشنی میں ہر قدم اٹھاؤ تو ایک کے بعد ایک حج کے فیوض و برکات اور انعامات و فتوحات کے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے۔

حج کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا، ان کی محبت پانا۔ حج کا سفر محبت و وفا کا سفر ہے۔ اس کا مدعا اور حاصل اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ اس کا ہر عمل محبت و وفا کا عمل ہے، اس کی ہر منزل محبت و وفا کی منزل ہے۔ یوں سمجھو کہ حج سارے کا سارا اِحْبَابُهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ اپنے ان پر دانوں سے محبت کرتے ہیں اور یہ پروانے ان کی محبت میں سرشار ہیں، کی جسم اور متحرک تصویر ہے۔

دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تم سے اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جیسا حضور پاکؐ نے ارشاد فرمایا، وہ ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ محبت والے ہیں۔ وہ اپنی ذات میں بے انتہا رحمت اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کو پکارو یا الرحمن کو، ایک ہی بات ہے۔ گویا اللہ کے معنی ہی الرحمن ہیں۔ ساتھ ہی وہ سارے دنیا والوں پر اپنی بے پایاں رحمتوں کی مسلسل بارش کر رہے ہیں۔ دنیا میں مخلوقات کے درمیان تم جہاں بھی اور جتنی بھی رحمت دیکھتے ہو وہ سب بھی ان ہی کی رحمت کا جلوہ ہے۔ مگر دنیا میں وہ جتنی رحمت کر رہے ہیں، وہ ان کی رحمت کے ایک سو میں سے ایک حصے کے برابر بھی نہیں، اگرچہ اس کا بھی احاطہ اور شمار ممکن نہیں۔ ۹۹ حصے انہوں نے آخرت میں عطا کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔

یہ انہی کی رحمت اور محبت ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن عطا کیا، تاکہ ہم آخرت کی رحمتوں میں سے حصہ پاسکیں۔ رسول پاکؐ جو رحمة للعالمین اور رزق و رحیم ہیں، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت و شفقت کا مظہر ہیں (لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ..... الخ)۔ موت کے بعد زندگی بخشنا اور اعمال کی جزا دینا بھی ان کی رحمت کا

تقاضا ہے (كَتَبَ عَلَي نَفْسِهِ الرُّحْمَةَ ، لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)۔ ہمیں دین اسلام عطا کر کے تو انہوں نے رحمت و انعام کی انتہا کر دی یہ ان کی نعمت کا اتمام ہے کہ یہی آخرت میں ان کی رحمت تک پہنچنے کا راستہ ہے (وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي)۔ یہ بھی ان کی ہمارے ساتھ محبت کا ثمر ہے ان کا فضل اور نعمت ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایمان ہمارے دلوں میں ڈال دیا اسے دلوں کی زینت بنا دیا اسے ہمارے لیے محبوب بنا دیا۔ ان کے ساتھ ہماری جتنی محبت ہے ہوگی وہ ان کی محبت (يُحِبُّهُمْ) اور ایمان کا ثمر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَمَّهُمْ حُبًّا لِّلَّهِ ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان کی ساری شیرینی مزا اور رنگ ان کے ساتھ اسی محبت کے دم سے ہے۔

یہ بیان محبت ذرا طویل ہو گیا۔ لیکن محبت کے بیان کی لذت اول چاہتا ہے کہ ختم ہی نہ ہو۔ محبت کے سفر کی لذت! دل چاہتا ہے کہ وقت سے پہلے شروع ہو جائے ختم ہونے کا نام نہ لے۔ اس کی ہر زحمت میں لذت کی چاشنی ملتی ہے۔ حج کی حقیقت کو دل کی گہرائیوں میں پالینے کے لیے کم سے کم اتنا بیان لذیذ ہی نہیں ضروری بھی تھا۔

دیکھو ویسے تو اس دین کا حکم جو نعمت و محبت کا اتمام ہے بندوں سے ان کی محبت کا مظہر ہے اور ان کی محبت کے حصول کا راستہ جو بندوں کی غایت ہے۔ ”سجدہ کس لیے کرو؟“ تاکہ ہم سے قریب ہو جاؤ۔ ”مال کس لیے دو؟“ علی حبہ ، ان کی محبت میں ان کی محبت و رضا کے لیے احکام حرام و حلال کے ہوں اخلاق و معاملات کے ہجرت و جہاد کے۔۔۔ سب ہم پر ان کی شفقت و رحمت پر مبنی ہیں۔ مگر حج کی بات ہی دوسری ہے۔ یہ تم سے اللہ کی محبت کا اور ان کی محبت کے اظہار کا بے مثال مظہر ہے اور تمہارے لیے ان سے محبت کرنے کا اپنی محبت کا اظہار کرنے کا اور ان کی محبت پانے کا انتہائی کامیاب و کارگر نسخہ۔ عبادات میں اس پہلو سے اس کی کوئی نظیر نہیں۔

ذرا غور کرو! اللہ تعالیٰ لامکان ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں وہ کسی مکان میں سا نہیں سکتے ہر ذرہ اور لمحہ ان کا ہے اور ان کی جلوہ گاہ۔۔۔ لیکن یہ ان کی ہم جیسے اسیر مکان و زماں بندوں سے بے پناہ محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی محبت دینے اور ان سے محبت کرنے کی نعمت بخشنے کی خاطر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں ایک بظاہر بالکل سادے اور معمولی گھر کو اپنا گھر بنا لیا اور مشرق و مغرب میں تمام انسانوں کو اپنے اس گھر آنے کا بلاوا بھیجا کہ آؤ سب کچھ چھوڑ کر لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کہتے ہوئے آؤ۔ پتھروں کے اس گھر آؤ اس گھر میں اپنے خدائے لامکان کی محبت اور قربت حاصل کرو۔ اس گھر میں اس کے درو دیوار میں اس کے گلے کوچوں میں اس کی طرف سفر میں انہوں نے تمہارے جذبہ عشق و محبت کے لیے تسکین و سیرابی شاد کامی اور لذت و کیف کا وہ

سارا سامان رکھ دیا جو ایک عاشق صادق اپنے محبوب کے کوچہ و دیار اور درود پوار سے پانے کی تمنا کر سکتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی رحمت و محبت کا کرشمہ ہے کہ انھوں نے عشق و محبت کے اس مرکز میں جو بظاہر حسن تعمیر اور جمال ماحول سے بالکل مبرا ہے بڑی عجیب و غریب محبوبیت رکھ دی ہے! اس گھر کو انھوں نے اعلیٰ ترین شرف و کرامت سے نوازا ہے۔ اسے انھوں نے اپنی بے پناہ عظمت و جلال کا مظہر بنایا ہے۔ اس کے سینے سے انھوں نے رحمت و محبت برکت و ہدایت اور انعام و اکرام کے لازوال چشمے جاری کیے ہیں۔ آیات بینات کا ایک اتھارہ خزانہ ہے جو اللہ نے اس گھر کی سادہ مگر محبت کے رنگ سے رنگین داستان کے ورق و ورق پر رقم کر دیا ہے۔ اللہ کے گھر کے حسن و جمال اور شان محبوبیت کا بیان اسی طرح الفاظ کے بس سے باہر ہے جس طرح کسی حسین کے حسن کا اور کسی شے لذیذ کی لذت کا جو تم دیکھنے اور چکھنے ہی سے پاسکتے ہو۔

دوسری طرف انھوں نے اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں اس گھر کی محبت ڈال دی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو چاہتے تھے وہ بھی جانے کی آرزو اور شوق میں سلگتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں تو روزانہ پانچ دفعہ اس گھر کی طرف رخ کر کے گھر کے مالک سے قرب اور ہم کلامی کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک طرف دیا محبوب کی شان محبوبیت اور دوسری طرف محبت کرنے والوں کی محبت ازل سے عشاق بے تاب کا ایک ہجوم بے پناہ ہے جو ہر وقت اور ہر جگہ سے کھینچ کھینچ کر اس گھر کے گرد جمع ہوتا چلا آ رہا ہے۔ خاص طور پر حج کے وقت جس کو رب الہیت نے جلوہ و زیارت کے لیے مخصوص و متعین کیا ہے۔ آج تم بھی اسی ہجوم کا ایک حصہ ہو اور میری تمنا ہے۔۔۔ اور تمہاری بھی یہی تمنا ہونا چاہیے۔۔۔ کہ محبت کی یہی چنگاری تمہارے دل میں سلگ رہی ہو اور وہی تمہیں کشاں کشاں دیا محبوب کی طرف لیے جا رہی ہو۔

اب ذرا حج کے اعمال و مناسک کو دیکھو جو تم بجالاؤ گے۔ یہ تمام تر عشق و محبت کے اعمال ہیں۔ یہ بھی اللہ کی محبت ہے کہ انھوں نے محبت کی ان اداؤں کی تعلیم دی ان کو اپنے گھر کی زیارت کا حصہ بنایا اور ان پر محبت اور اجر کی بشارت دی۔ یہ سنت ابراہیم کا ورثہ ہیں۔ دیکھو شاہ عبدالعزیز صاحب ان اعمال کی حقیقت کی کتنی خوب صورت تصویر کھینچتے ہیں:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا [اور یہی حکم تمہارے لیے ہے] سال میں ایک دفعہ اپنے کو اللہ کی محبت میں سرگشتہ و شیدا بناؤ اس کے دیوانے ہو جاؤ، عشق بازوں کے طور طریقے اختیار کرو۔ محبوب کے گھر کے لیے۔۔۔ ننگے پاؤں اٹھتے ہوئے بال پریشان حال گرد میں اٹے ہوئے۔۔۔ سر زمین حجاز میں پہنچو اور وہاں پہنچ کر کبھی پہاڑ پر چڑھو کبھی وادی میں دوڑو کبھی محبوب کے گھر کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔۔۔ اس خانہ تجلیات کے چاروں طرف دیوانہ وار چکر لگاؤ اور اس کے درود پوار کو چومو

اور چاٹو۔

محبت کرنے اور محبت پانے کے یہ سب طریقے اللہ کی رحمت ہی نے تمہیں سکھائے ہیں۔
یہ ہے وہ حج جس کے لیے تم روانہ ہو رہے ہو۔ جتنا عشق و محبت کا یہ سبق ازبر کرو گے، دل پر اسے نقش کرو
گے، اسے یاد رکھو گے، اللہ کو تم سے جو محبت ہے اس کی حرارت اور طمانیت اپنے اندر جذب کرو گے، اللہ سے ٹوٹ کر
پورے دل سے محبت کرو گے اور اس کا اظہار کرو گے، حج کے ہر عمل کو زیادہ سے زیادہ اس محبت کے رنگ میں رنگو
گے، اس سے اللہ کی محبت کی طلب اور جستجو کرو گے، انہی کی محبت اور قرب کی آرزو اور شوق میں جلو گے، اتنا ہی تم حج
کی آغوش سے اس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہو کر لوٹو گے جیسے ماں کے پیٹ کی آغوش سے نکلنے ہو، اور
تمہارے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوگی۔ (حاجی کے نام، منشورات لاہور، ص

(۱۳-۸)

ماہنامہ ترجمان القرآن دسمبر ۲۰۰۵ء